

4 Stages of Existence

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Four Stages of Mankind and Our Relationships in Each Stage As Mentioned in Al-Quran

First Stage-Before arriving in the Worldly Life

Duration - Few thousand years

All our Souls were created at one time having no relationship to each other

AlAaraf 7:172 Then an Oath is taken. Then we are in the Waiting Room to receive a Physical body and a visa to take a journey to the Physical World

اور جب نکالی تیرے رب نے بنی آدم سے۔ (یعنی) انکی بیٹیوں سے انکی اولاد اور گواہ بنالیا ان کو خود انکے اوپر۔ (اور کہا) کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب۔ کہا انہوں نے ہاں۔ ہم گواہ ہیں۔ (یہ اس لئے) کہ (نہ) کہنے لگو تم قیامت کے دن کہ یقیناً ہم تھے اس سے غافل۔

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَا اَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ

Second Stage - Worldly Life

Duration - Zero to Few hundred years

We arrive on Earth in the Worldly Life, one at a time

AnNisa 4:1 Our Earthly beginning is from one single being

اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیئے ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

AlHujrat 49:13 We are sent in the world as one of the two kinds, male or female

اے لوگوں بیشک ہم نے پیدا کیا تمکو ایک مرد اور ایک عورت سے اور بنادیا ہم نے تمکو قومیں اور قبیلے تاکہ شناخت کرو آپس میں۔ بیشک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہے بیشک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Luqman 31:14 We are born through a female who receives the title as mother. Another person is included with her as father of the child. Both are made responsible and the Creator calls them as parents

اور تاکید کی ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ اٹھانے رکھتی ہے جسے اسکی ماں تکلیف پر تکلیف سے اور دودھ چھڑانا ہوتا ہے اس کا دوبرس میں کہ شکر کرتا رہ میرا اور اپنے والدین کا۔ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

AnNisa 4:1 Born through the same womb (mother), We enter into a new relationship as kinship - Sister and Brother

اور ڈرتے رہو اللہ سے وہ ہستی کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کے واسطے سے اور رشتوں سے۔ بیشک اللہ ہے تم پر نگہباں۔

وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَرْقِبًا

AlFurqan 25:54 Two worldly relationships - by blood and by marriage

اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا پانی سے انسان کو پھر بنانے اسکے نسب اور سہرا اور ہے تیرا رب بڑی قدرت والا۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

ArRoom 30:21 As we grow up, a new relationship is designed. Husband and Wife

اور اسکی نشانوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیں تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے بیویاں تاکہ تم سکون حاصل کرو انکے پاس اور پیدا کر دی اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور کرتے ہیں۔

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

AlBaqarah 2:83 Another branch of relationship is defined as near relatives Aunts, Uncles and Grandparents

نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَالْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَ ذِي الْقُرْبَىٰ

Third Stage-Between Death and Resurrection

Duration - Unknown

Duration between Physical Death and Physical Resurrection is Burzukh

It is waiting time - Its duration is unknown-There are no relationships

Based on the performance in the earthly life, the waiting will be one the three kinds

1: Those who sacrifice their life in Allah's cause are given provision. **2:** Those who were utmost disobedient are shown fire **3:** Rest may be just in the state of deep sleep

Angels are permitted to inform a dying person, his next destination

AlMonimoon 23:99-100 After death, until resurrection, there is a waiting A Barrier/Burzukh

یہاں تک کہ جب آجائے گی ان میں سے کسی کے پاس موت تو کچھ گا میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

شاید کہ میں عمل کروں نیک اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں یہ تو بس ایک بات ہے وہ اسے کہہ رہا ہے۔ اور انکے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

AlBaqarah 2:154 Those who die for the sake of Allah are actually alive

اور نہ کہ ان کی نسبت جو قتل کئے جائیں اللہ کی راہ میں کہ مردہ ہیں۔ بلکہ زندہ ہیں لیکن نہیں ہے تم کو شعور۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

AlMomin 40:46 Those who die being extremely disobedient are shown fire while waiting

آتش جہنم ہے کہ پیش کئے جاتے ہیں وہ جس پر صبح اور شام - اور جس دن قائم ہوگی قیامت۔ (حکم ہو گا) داخل کرو فرعون والوں کو سخت عذاب میں۔

النَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

AnNahal 16:32 Righteous people are given salam and good news of paradise by the angels when leaving this worldly life and entering the burzukh

وہ جنکی روہیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ (کفر و شرک سے) پاک ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں سلام ہو تم پر۔ داخل ہو جاؤ جنت میں بدلے میں انکے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

AnNahal 16:28-29 Wrongdoing people are given news of Hell by the angels when leaving this worldly life and entering the burzukh

وہ جنکی روہیں قبض کرتے ہیں فرشتے جبکہ وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے حق میں۔ تو ہو جاتے ہیں فرمانبردار کہ نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی۔ کیوں نہیں یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

سوداغل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے۔ ہمیشہ رہیں گے
اس میں۔ سوہمت برا ٹھکانہ ہے تنگ کرنے والوں کا۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَئِنَّ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِينَ

Fourth Stage-Day of Judgment-Hereafter

Duration - Never Ending

When all mankind are raised on the Day of Judgment for Accountability
All worldly relationships will be terminated
People will recognize each other but will not be able to do anything for each other
That person was my father, my mother, my wife, my sister, my brother, my child
That is all – Today we can't help each other

AlMonimoon 23:101

No Relationship on the day of Judgment

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ رہیں گی قرابتیں ان میں
اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا
يَتَسَاءَلُونَ

Luqman 31:33

Father will not help son - Son will not help father

اے لوگو ڈرو اپنے رب سے اور خوف کرو اس دن کا کہ نہ کچھ
کام آنے باپ اپنے بیٹے کے اور نہ اولاد ہی کچھ کام آسکے
اپنے باپ کے کچھ بھی۔ بیشک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس نہ
ڈالے دھوکے میں تم کو دنیا کی زندگی۔ اور نہ فریب دے
تمہیں اللہ کے بارے میں فریبی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَانْحَشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي
وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ
شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ

Abasa 80:33-37 Running away from Brother, Father, Mother, Wife, Children

تو جب آنے کی کانوں کو پھاڑنے والی آواز۔ اسدن بھاگے
گا آدمی اپنے بھائی سے۔ اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔
اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص ان میں اس
دن ایک فکر میں ہو گا جو اسے سب سے بے نیاز کر دیگی۔

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ
شَأْنٌ يُغْنِيهِ

AtToor 52:21

In Paradise, Children will be joined with their Parents

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اتباع کی انکی انکی اولاد نے راہ
ایمان میں۔ ملا دیں گے ہم انکے ساتھ انکی اولاد کو۔ اور نہ کم
کریں گے انکے عمل میں سے کچھ بھی۔ ہر فرد اپنی کمانی
کے بدلے میں رہن ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا
بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۖ كُلُّ
امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ